

Officer:

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or hand you any documents based on my 5th Amendment rights under the United States Constitution.

I do not give you permission to enter my home based on my 4th Amendment rights under the United States Constitution unless you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate with my name on it that you slide under the door. I do not give you permission to search any of my belongings based on my 4th Amendment rights.

I choose to exercise my constitutional rights.

*These cards are available to citizens and noncitizens.*

ایک ریڈ کی رپورٹ کریں

اپنا دفاع کریں۔ اپنی ڈیپورٹیشن کے خلاف لڑنے کے طریقوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ایک مقامی کمیونٹی تنظیم کے ساتھ رابطہ میں رہیں تاکہ آپ قانونی مدد حاصل کر سکیں۔

کال کریں ایک ساتھ ہم خواب دیکھتے ہیں (United We Dream) کے لئے ایک برہ راست لائن 1-844-363-1423 اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔

ملاحظہ کریں ہماری ویب سائٹ [www.njimmigrantjustice.org](http://www.njimmigrantjustice.org) اور ایک ریڈ کی اطلاع دیں اور ایک امیگرنٹس حقوق کی تنظیم تلاش کریں۔



ایک اچانک مقابلہ/مڈبھیڑ کے دوران کیا کریں  
امیگریشن کے ساتھ

اگر ICE آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے

دروازہ مت کھولیں۔ ICE آپ کے گھر میں ایک تلاشی وارنٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔

دروازے کے نیچے سے وارنٹ دکھانے کا کہیں۔ اگر ایجنٹس کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک وارنٹ ہے، تو انہیں کہیں کہ وہ دروازے کے نیچے سے وارنٹ آگے بڑھائیں۔ دروازہ مت کھولیں۔

وارنٹ کا جائزہ لیں۔ یقینی بنانے کے لئے وارنٹ پر نام اور پتہ کی تصدیق کریں کہ یہ آپ کے نام یا ایک فرد جو آپ کے پتے پر رہتا ہے کے ساتھ ایک درست وارنٹ ہے۔ یہ پڑتال بھی کر لیں کہ وارنٹ پر ایک جج نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ایک ICE وارنٹ ایک عدالتی وارنٹ جیسا ہی نہیں ہے۔

گھر پر ریڈ کرنے کے دوران، ایجنٹس اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عدالتی وارنٹ ہے۔ جب کہ ان کے پاس محض ایک ICE وارنٹ ہوتا ہے۔

جو ہوا اس کی دستاویز بندی کریں۔ ICE ایجنٹس کو نام اور ان کے بیجز نمبر بتانے کا کہیں۔ نام لکھ لیں اور ہر چیز کی تصویر لیں جو کچھ بھی ریڈ کے دوران ہوتا ہے۔

## اگر ICE آپ کے پاس پہنچتا ہے

ایجنٹ کی جانب سے کسی سوال کا جواب نہ دیں اگر وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خاموش رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ ایک وکیل سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

دروازہ مت کھولیں اگر ایک امیگریشن ایجنٹ آپ کے دروازے پر ہے۔ اگر ایجنٹ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک وارنٹ ہے، تو انہیں وارنٹ کو دروازے سے نیچے آگے بڑھانے کا کہیں، تصدیق کیلئے کہ اس پر ایک جج نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔

اس کارڈ کو کاٹ دیں اور اسے ایجنٹ کو دیں۔ دروازہ مت کھولیں۔ آپ آئینی حقوق رکھتے ہیں۔

## یاد رکھیں

تیار رکھیں خود اور اپنے خاندان کو بصورت اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اپنے خاندان اور وکیل کے فون نمبر کو زبانی یاد کر لیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں یا طبی ضروریات ہیں تو ہنگامی منصوبہ بنائیں۔ کوئی فرد جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں کے پاس اہم دستاویزات کی نقول رکھیں۔

خاموش رہیں۔ ICE کے کسی بھی سوالات کا جواب مت دیں یا انہیں کوئی معلومات نہ دیں۔ کچھ بھی جو آپ کہتے ہیں اسے آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔

گرفتاری کی مزاحمت مت کریں۔ حتیٰ کہ اگر ICE ناحق آپ کو گرفتار کر رہا ہے، تو گرفتاری کی مزاحمت نہ کریں۔

جھوٹ مت بولیں یا جعلی دستاویزات نہ دکھائیں۔ اگر آپ ایک امریکی شہری ہیں یا ایک قانونی حیثیت کے حامل ہیں، تو ثبوت دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس امیگریشن دستاویزات نہیں ہیں، تو ICE کو بتائیں کہ آپ خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ اپنے آبائی ملک کی دستاویزات کو دکھانے سے گریز کریں۔

ایک وکیل سے بات کرنے کا کہیں۔ کچھ نہ کہیں، اور ایک وکیل سے بات کیے بغیر کوئی بھی بات چیت نہ کریں۔

دستخط مت کریں۔ ICE ایجنٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ دستاویزات پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وکیل سے مشاورت کیے بغیر کسی بھی دستاویزات پر دستخط نہ کریں۔

## اگر ICE آپ کے پاس پہنچتا ہے

### کسی گلی کوچہ یا عوامی مقام پر

پوچھیں: "کیا میں جانے کے لئے آزاد ہوں؟" اور خاموش رہیں۔ ICE بنا کسی وجوہ آپ سے سوال کرنے کے لئے آپ کو حراست میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ ICE کو اپنا نام بتانے یا کوئی معلومات دینے سے پہلے، پوچھیں کہ کیا آپ جانے کے لئے آزاد ہیں۔ اگر وہ "ہاں" کہتے ہیں تو اس مقام کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ "نہیں" کہتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک وکیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔

ایک تلاشی کی اجازت مت دیں۔ اگر ICE کوشش کرتی ہے آپ کی یا آپ کی املاک/گھر کی تلاشی لے تو کہیں کہ "میں اس تلاشی پر رضامند نہیں ہوں۔"

دوڑیں مت۔ اگر آپ دوڑتے ہیں، تو یہ ICE کو آپ کو روک سکنے کے لئے ایک قانونی جواز فراہم کر سکتا ہے۔

